

Psychology Fa Part 2 Chapter 1 Online Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	سماجی قریب و بعد کی پیمائش کرنے والے پیمائش کس کا وضع کردا ہے۔	A. لکھت B. ٹھہر سوئن C. بوگارڈس D. اس کا
2	قلبل فہم گفتگو کیلئے ضروری ہے کہ زبان کے عضلات میں موزون حد تک برو	A. نیزی B. روائی C. مضبوطی D. لچک
3	انسانی جسم میں تبدیلی کا عمل مکمل ہونے پر رک چائے تو اسے کیا کہتے ہیں۔	A. بالیدگی B. نشوونما C. پختگی D. ان میں سے کوئی نہیں
4	بچوں کی پرورش میں والدین کا تربیتی انداز بہت ابہ بوتا ہے جس کی اقسام ہیں۔	A. تو B. تین C. پلاج
5	پیاج کا بیان کردہ غیر مرکزیت کا تصور قوفی نشوونام کے کس درجے میں پایا جاتا ہے۔	A. ٹھوس عملی درجہ B. باضبطہ عملی درجہ C. قبل عملی درجہ D. حسی حرکی درجہ
6	جنسی براستی کا شکار زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں۔	A. عورتی اور مرد B. مرد اور بیوی C. عورتی اور بیوی D. یہ سب
7	بچوں میں خود اظہاری اور خود انضباطی کو ابھیت دیتے ہیں۔	A. امریت پسند والدین B. غیر ماحمی والدین C. ماحمی والدین D. تعلیم یافہ والدین
8	نش کے عادی افراد نے کی کیفیت طاری کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں۔	A. پیشہ نشے کی گیسان مقدار استعمال کرتے ہیں B. رفہ رفہ نشے کی یکسان مقدار بڑھایتے ہیں C. رفہ رفہ نشے کی مقدار کم کریتے ہیں D. یہ تمام بیانات درست ہیں
9	نمونی نفسیات کو کہا جاتا ہے۔	A. بچوں کی نشوونما B. بڑوں کی نشوونما C. مالحول کی نشوونما D. ذیلتی نشوونما
10	کس غذا میں ایسے تمام لازمی اور بینادی غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو فرد کی صحت کے لئے ضروری ہیں؟	A. توائی سے بھرپور غذا B. سیزیوں پر مشتمل غذا C. پہلوں پر مشتمل غذا D. متوازن غذا
11	کن افراد کو معمول سے زیادہ حراروں والی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے؟	A. صحت مند بالع افراد B. حاملہ خاتون C. بزرگ D. سب کے سب
12	سماجت کے عمل کی ابتداء کب سے ہوتی ہے۔	A. قبل از پیدائش B. پیدائش کے بعد سے C. بلوغت سے D. جوانی سے
13	چے کی غذائی عادات کو بنائے کا بگاڑنے کا سب سے زیادہ زمہ دار کون ہے؟	A. دوست B. رشتہ دار C. مل D. پاپ
14	بر سطح پر عمر کی پختگی کے نتیجے میں بچے کی صلاحیتی ہوتی رہتی ہے۔	A. کم و زیادہ B. تغیر پذیر C. غیر تغیر پذیر D. منظم و متوازن
15	فرد کی غذائی عادات پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟	A. معاشی، سماجی، ماحولی عوامل B. فرد کی عمر اور روپیے C. شخصی اقدار اور پیشہ D. الف اور ج دونوں

- 16 کس ملبو نفست کا کہنا ہے کہ انسان عقلی اور غیر عقلی اور غیر عقلی دونوں خواص کا مالک ہے
- A. فرانٹ
B. البرٹ ایلس
C. راجرڈ
D. ان میں کسی نے نہیں
-
- 17 ایک گرام پروٹین میں کتنے حرارے پائے جاتے ہیں؟
- A. 4
B. 6
C. 5
D. 7
-
- 18 بچے کا دوسرا لوگوں کے ساتھ جان پہچان اور میل میلاب کی نمو کا مکمل بونا کہلاتا ہے
- A. وقوفی نشوونما
B. جسمانی نمو
C. سماجی نمو
D. بالیدگی
-
- 19 فرد کی کارکردگی صحت مندی اور طویل العمری کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟
- A. اچھی غذائی عادات
B. بیو اور پانی پر
C. چکنائی اور شکر پر
D. محلول پر
-
- 20 فرد کے لیے پانی کی ضرورت کا تعین کس بات کو منظور رکھ کر کرنا چاہیے؟
- A. کام کی نوعیت
B. موسم کی شدت
C. قدر اور اسہال
D. جسم سے خارج ہونے والی پانی کی مقدار پر
-
- 21 جنسی برسائی کا شکار زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں
- A. عورتیں اور مرد
B. مرد اور بیوے
C. عورتیں اور بچے
D. یہ سب
-
- 22 تینرے پلیسکل چلاسے گیند پہنکتے یا کھیلانے جیسے انفرادی اعمال کہلاتے ہیں
- A. فائلو جینٹیک
B. بلیو جینٹیک
C. جینٹیک
D. فریو جینٹیک
-
- 23 کس معیار کی روح سے اکثریت کا کردار نارمل ہوتا ہے
- A. طبقی معیار
B. سماجی معیار
C. اسلامی معیار
D. شماریاتی معیار
-
- 24 تعصب دور کرنے کی سب سے موثر تدبیر کون ہے
- A. تعلیم
B. میازرت
C. تحفظ
D. رابطہ و تعاون
-
- 25 پیدائش کے وقت سے لے کر دس بارہ بقئے تک کا عرصہ کہلاتا ہے
- A. عبد شیر خوارگی
B. عبد طفولیت
C. عبد بلوغت
D. عبد شباب
-
- 26 ایک گرام چکنائی میں کتنے حرارے پائے جاتے ہیں؟
- A. 4
B. 6
C. 9
D. 5
-
- 27 طالب علم کو دوناپسندیدہ مضامین میں سے کسی ایک مضمون کو چنتا پڑے تو اس صورت حال کو کیا کہا جاتے گا
- A. حصول گزیزی تصادم
B. دوپرا گزیزی تصادم
C. دوپرا حوصلی تصادم
D. کثیر حوصلی گزیزی تصادم
-
- 28 وہ عمل جس میں بر نسل کے فرد میں اپنے آباء اجداد کے اوصاف منتقل ہوتے ہیں کہلاتے ہیں
- A. تغیر
B. وراثتی
C. نمو
D. وراثتی پبلو
-
- 29 بنیونما نفیبات کا دائرہ عمل کب سے شروع ہوتا ہے
- A. پوغہ بنتے سے
B. پیدائش کے بعد
C. طولیت کے دور سے
D. ان میں سے کوئی نہیں
-
- 30 مشہور ملبو جیاتیت نے کہا کہ بنی نوع انسان کی نشوونما تمام عجائب میں سے سے بڑا عجوبہ ہے
- A. برلاک
B. کاکان
-
- 31 پیدائش کے وقت عموماً بچے کا قد ہوتا ہے
- C. رومن
D. ولیم
-
- A. سیٹی میٹر سے 53 سیٹی میٹر تک
B. سیٹی میٹر سے 55 سیٹی میٹر تک
C. سیٹی میٹر سے 65 سیٹی میٹر تک
D. سیٹی میٹر سے 53 سیٹی میٹر تک
-
- 32 نشوونما کے عمل کی اقسام ہیں
- A. دو
B. چار
C. تین
D. پانچ
-
- 33 ٹیزیوفرینا کے مریض میں وابیسے کس حس سے متعلق ہوتے ہیں
- A. بصری حس
B. سمعی حس
C. لمسی حس
D. تمام حس، سس

- 34 خواتین کا میں کس مرض کا تعلق صفاتی ستھرائی سے ہے
 A. فربیا
 B. تسلط امیز اچاری افعان
 C. برسائی
 D. نشویش
- 35 وزن کو متوازن رکھنے کے لیے کس غذائی جز کا وافر استعمال کرنا چاہیے؟
 A. شکر
 B. گورکش
 C. سیبزی اور پول
 D. وٹامنز
- 36 استقرار حمل سے لے کر موت تک چاری رہتا ہے
 A. بالدیگی کا عمل
 B. نشوونما کا عمل
 C. نمو کا عمل
 D. آموزش کا عمل
- 37 ماحول مطلبقت پنیری کے نفیتی عمل سے تعلق رکھتے ہیں
 A. قول و فعل
 B. وقوف و دیانت
 C. مشروطیت
 D. عمل آموزش
- 38 خواہشات کی تسلیک کے لیے انکس اصول کی پیروی کرتی ہے
 A. خارجی اصولی
 B. اصول حقیقت
 C. اصول لذت
 D. معاشرتی اصول
- 39 تعصیب دور کرنے کی سب سے موثر تدبیر کون سی ہے
 A. تعلیم
 B. مجازرت
 C. تحفظ
 D. رابطہ و تعلوان
- 40 بے تحاشا کھانا اور پھر ناموزن طریقے سے اس کی تلافی کرنا کون سا مرض ہے
 A. کم خوری
 B. بڑھ کر خوری
 C. binge eating
 D. purging
- 41 فراء کے مطلب لا شعوری مواد کو شعور میں لانے کے لیے کون سی تکنیک سب سے زیادہ مفید ہے
 A. خوابوں کا تجزیہ
 B. ازاد تلازم
 C. انٹروپیو
 D. ہے سب
- 42 تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جسمانی اور ذہنی خصوصیات کی تشکیل کچھ تو ان خصوصیات کے اندر ہونی درجہ بلوغت پر مختصر ہے اور کچھ فرد کی
 A. مشق اور کوشش پر
 B. تعلیم پر
 C. تجربہ پر
 D. اپنی ذاتی محنت پر
- 43 جب عمل آموزش کی بدولت ترقی یا ارتقا واضح کرنا مقصود ہو تو اصلاح استعمال کی جاتی ہے
 A. نشو و نما کی
 B. نمو کی
 C. بالدیگی کی
 D. پختگی کی
- 44 سماجیت کا عمل کب سے ختم ہوتا ہے
 A. نوجوانی پر
 B. بلوغت پر
 C. بڑھ لے میں
 D. موت پر
- 45 بھلوں اور سیزیوں میں کون سے بنیادی غذائی اجزاء پلے جاتے ہیں؟
 A. پلٹی
 B. قدرتی شکر
 C. پرتوئن
 D. سب کچھ